

17 ستمبر 2018

## سٹی آف برامپٹن کے بجٹ 2018-2020 نے اعلیٰ ایوارڈ حاصل کر لیا

برامپٹن، آن: سٹی آف برامپٹن کے منظور شدہ آپریٹنگ اور کیپیٹل بجٹ 2018-2020 کو گورنمنٹ فنانس آفیسرز ایسوسی ایشن آف دی یونائیٹڈ سٹیٹس اینڈ کینیڈا (GFOA) کی جانب سے دی ڈسٹنگوئڈ بجٹ پریزنٹیشن ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔

حکومتی بجٹ سازی کے حوالے سے یہ GFOA کا سب سے اعلیٰ درجے کا اعزاز ہے۔ یہ تیسرا مسلسل سال ہے، جب سٹی نے اس ایوارڈ کے حصول کے لیے کوششیں کی ہیں اور اسے حاصل کیا ہے، جو اقتصادی شفافیت اور اچھے طرز حکمرانی کے حوالے سے ایک بڑی کامیابی کو ظاہر کرتا ہے۔

اس ایوارڈ کے حصول کی کوشش کے دوران، سٹی کو مؤثر طور پر بجٹ پیش کرنے کی قومی سطح پر رائج گائیڈ لائنیں پر پورا اترنا پڑا تھا۔ ان گائیڈ لائنیں کی روشنی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بجٹ پلان پالیسی ڈاکومنٹ، فنانشل پلان، آپریشنز گائیڈ اور ایک کمیونیکیشن ویکل کے طور پر کس حد تک خدمات فراہم کرتا ہے۔

### اقتباسات:

"اس مرتبہ پھر ڈسٹنگوئڈ بجٹ پریزنٹیشن جیسا باوقار اعزاز موصول کرنا شفافیت کے حصول کے لیے ہمارے عزم اور برامپٹن کے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کے حوالے سے ہمارے ادراک کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ کینیڈا کے نوجوان اور متنوع ترین شہروں میں سے ایک کے طور پر، برامپٹن کا بجٹ 2018-2020 معیار زندگی کو بہتر بنانے اور بہتر معاشی مستقبل اور بڑھوتری کے لیے حکمت عملی کے تحت کلیدی ترجیحات میں سرمایہ کاری کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔"

میئر لنڈا جیفری

"ہم اپنے رہائشیوں کو زیادہ مؤثر انداز میں خدمات فراہم کرنے کے لیے بلدیاتی نظام کو جدید بنانے اور اپنے کام کے طریقوں کو بہتر بنانے کے لیے ثابت قدمی سے کام کر رہے ہیں۔ اپنی اقتصادی ذمہ داریاں پوری کرنے کے عزم کے ساتھ ہمارے بجٹ کے عمل کو آگے بڑھانے میں عوامی رائے اور شفافیت کلیدی عناصر تھے۔ ہم پورے سٹی آف برامپٹن میں اپنے کاموں میں بہترین طرز عمل لانے کی کوشش جاری رکھیں گے۔"

بیری شلینج، CAO

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع آرین سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

برائین اسٹیل

سینیئر میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

[brian.stittle@brampton.ca](mailto:brian.stittle@brampton.ca) | 905.874.2143